

ROOTWORDS SURAH SAFFAAT 1-82

الصَّافَّاتِ	فَالزَّاجِرَاتِ	فَالثَّالِيَاتِ	الْكَوَاكِبِ	مَارِدٍ	يُعَذِّفُونَ
ص ف ف	ز ج ر	ت ل و	ك و ك ب	م ر د	ق ذ ف
صف باندھ کر کھڑے ہونے والوں کی	پھر ڈالنے والوں کی	پھر تلاوت کرنے والوں کی	ستاروں کی	سرکش	پھینکے جاتے ہیں
دُخْرًا	وَاصِبٌ	الْمُخْطَفَةَ	ثَابِتٌ	فَأَسْتَفْتِهِمْ	لَأَرْبِ
د ح ر	و ص ب	خ ط ف	ث ق ب	ف ت ي	ل ز ب
بھگانے کے لیے	دائمی	چور کی سے	جلتا ہوا	تو ان سے پوچھو	لسیدار
عَجِبْتَ	يَسْتَسْخِرُونَ	دَاخِرُونَ	زُجْرَةً	وَقِفُّهُمْ	طَاعِينَ
ع ج ب	س خ ر	د خ ر	ز ج ر	و ق ف	ط غ ي
آپ تعجب کرتے ہیں	تمسخر کرتے ہیں	ذلیل ہو گے	زور کی آواز	اور ان کو ٹھیرائے رکھو	سرکش
لَنَارِكُو	فَوَاكِهُ	يَطَافُ	بِكَأْسٍ	بَيْضَاءَ	غَوْلٌ
ت ر ك	ف ك ه	ط و ف	ك أ س	ب ي ض	غ و ل
چھوڑ دینے والے ہیں	میوے	دور چل رہا ہوگا	جام کا	سفید	دروہ ہو
يُنزِفُونَ	قَاصِرَاتِ	مَكْنُونٌ	قَرِينٌ	مُطَلِّعُونَ	كِدْتَ
ن ز ف	ق ص ر	ك ن ن	ق ر ن	ط ل ع	ك و د
بہکی باتیں کریں	نیچی رکھتی ہوں گی	محموظ	ایک ساتھی	جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو۔	قریب تھا
لَتُرْدِينَ	الرِّقُومِ	أَصْلٍ	طَلْعَهَا	رُدُوسٌ	فَمَا لَتُونَ
ر د ي	ز ق م	أ ص ل	ط ل ع	ر أ س	م ل أ
کہ مجھے ہلاک ہی کر دے	تھوہر کا	جڑ	اس کے خوشے	سر	پھر بھریں گے
	لَشَوْنَا	أَلْفُوا	يُهْرَعُونَ	الْمُجِيبُونَ	
	ش و ب	ل ف و	ه ر ع	ج و ب	
	ملاوت	انہوں نے پایا	دوڑے چلے جاتے ہیں	قبول کرنے والے ہیں	